



”اس قرآن کی حفاظت (دیکھ بہال) کرو اور اس کی برابر تلاوت کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل جائے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہے“

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ”اس قرآن کی حفاظت (دیکھ بہال) کرو اور اس کی برابر تلاوت کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل جائے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہے“

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دھیان رکھنے اور پابندی سے اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ قرآن یاد ہونے کے بعد انسان کے حافظے سے نکل نہ جائے۔ آپ نے اس بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن اونٹ کے بندھن توڑ کر بھاگنے سے بھی زیادہ تیزی سے انسان کے سینے سے نکل بھاگتا ہے انسان خیال رکھے تو وہ رکتا ہے اور دھیان نہ دے، تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5907>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

